



# 40 رُوحانی عِلَاج

مع  
(بلوچی) طِبِّی عِلَاج



شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوالیاس  
محمد الیاس عطار قادری رضوی  
کامیاب ترین کتاب  
اعتقاد الہیہ

40 روحانی علاج

## 40 روحانی علاج مع طبّی علاج

اے رسالہ ”40 روحانی علاج مع طبّی علاج“ شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی

دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی

دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ الْعَالِیَہِ اِردو زبان ءتہا است۔

مجلس شعبہ تراجم (دعوتِ اسلامی) اے رسالہ ء آسان بلوچی زبان تہا  
کنگنیں بازشریں کوشش کت۔ اگاہے ترجمہ تہا یکپوزنگ تہا غلطی ءبی شتا  
مجلس تراجم ضرور بہ آگاہ کنے، اور ثواب حق دار بیے۔

**پیشکش: مجلس تراجم (دعوتِ اسلامی)**

رابطہ ءواسطہ

مکتب مجلس تراجم (دعوتِ اسلامی) عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ محلہ

سوداگراں کاہنے سبزی منڈی باب المدینہ کراچی

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92-Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## 40 روحانی علاج مع طبیبی علاج

### درود شریف و فضیلت

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۞ پیارائیں حبیب، حبیبِ لیب، طیبیاں فی طیب **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ**  
**وَالِهِ وَسَلَّمَ** ۞ فرمانِ رحمت نشان استیں: ہر کسے میں سر جمعہ ۞ شپ اور جمعہ ۞ روج ۞  
تہا (یعنی پنج شنبہ ۞ روج ایر کپگاشہ جمعہ ۞ روج ایر کپگ تک) صد بار دُرود  
شریف وانی اللہ عَزَّ وَجَلَّ آئے صد حاجت پورا (پیلو) فرمائی 70 آخرت ۞ اور  
30 دنیا ۞۔ (شعب الایمان ج 3 ص 111 حدیث 3035)

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

ہر ورد ۞ شہ پیشتر اور رندیک مرتبہ درود شریف وانی، فائدہ ظاہر نہ بیگ ۞  
صورت تہا شکوہ نہ کنے بلکہ وتی کوتاہیانی شامت ۞ تصوّر کنے، اللہ عزوجل ۞  
حکمت سرانظر ایر کنے۔

## 40 روحانی علاج

هُوَ اللَّهُ الرَّحِيمُ

﴿1﴾

ہر کسے نماز شہ رند ہفت مرتبہ وانی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** شیطان سے شرارت شہ محفوظ بی اور آئیے ایمان سے خاتمہ بی۔

يَا اللَّهُ

﴿2﴾

100 مرتبہ اب کنگے وقت وانگا گوں **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** شیطانانی شرارت شہ اور فالج اور لقوہ آفت شہ حفاظت بی۔

يَا مَلِكُ

3

90 مرتبہ ہر غریب و نادار ہر روج وانی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** غربت شہ نجات ملی۔

يَا قُدُّوسُ

﴿4﴾

ہر کسے سفر نیماورد کننا روی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** مانگ شہ محفوظ بی۔

## يَا سَلَامُ

﴿5﴾

111 مرتبہ وانے بیمار سر ادم کنگاں گوں **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** شفا حاصل بی۔

## يَا مُهَيِّبُنِ

﴿6﴾

29 مرتبہ ہر کسے غمزدہ ہر روچ وانی **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آئیے غم دور بی، اور **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آفتاں اور بلا ناں شہ بہ محفوظ بی۔

## يَا عَزِيْزُ

﴿7﴾

41 مرتبہ حاکم یا افسرء کر ار وگ شہ پیشتر وانے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آل حاکم یا افسر مہربان بی روی۔

## يَا مُتَكَبِّرُ

﴿8﴾

21 مرتبہ ہر روچ وانے، ٹرسینگ والی واب پیدا عن تہ **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** نہ کاینست۔ (علاج وقت شفا حاصل بیگ تک)

## يَا مُتَكَبِّرُ

﴿9﴾

لوگیء گوں ”اوار بیگ“ شہ پیشتر 10 مرتبہ وانے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آل نیکیں بچکے پت بی۔

## يَا بَارِئُ

﴿10﴾

10 مرتبہ ہر کسے جمعہ روجہ وانے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** ایما بچکے عطابی۔

## يَا قَهَّارُ

﴿11﴾

100 مرتبہ اگر کسے مصیبت آگے وقت وانی تہ **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** مشکل آسان بی۔

## يَا وَهَّابُ

﴿12﴾

ہفت مرتبہ ہر روج وانگ گوں **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** مُسْتَجَابِ الدَّعَوَاتِ بی (یعنی آئیے دعا قبول بیاں)

## يَا فَتَّاحُ

﴿13﴾

70 مرتبہ ہر کسے ہر روج فجر نماز شہ رند دو میں دستاں وتی سینگہ سر الیر  
کس وانی **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** دل زنگ و میل دور بی۔

## يَا فَتَّاحُ

﴿14﴾

ہفت مرتبہ کوئی بہ وقت ہا روجہ یک مرتبہ وانے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ**  
آیے دل روشن بی۔

## يَا قَابِضُ ، يَا بَاسِطُ

﴿15﴾

30 مرتبہ ہر کسے ہر روج وانی **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آل دشمن سر افتح حاصل کنت۔

## يَا رَافِعُ

﴿16﴾

20 مرتبہ ہر کسے ہر روج وانی **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آیے مراد مکمل بیاں۔

## 40 روحانی علاج

### يَا بَصِيرُ

﴿17﴾

ہفت مرتبہ ہر کسے ہر روج عصرء وقت (یعنی عصرء شروعاتی وقت شہ روج ایر کپگء تک کوئی بہ وقتء تھا) وانی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** اچانک مرگ شہ محفوظی۔

### يَا سَبِيعُ

﴿18﴾

100 مرتبہ ہر کسے ہر روج وانی اور اے نیاماں ٹوک نہ کنت اور دعالوٹی تہ **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ہر چیزے لوٹی اشیار ملی۔

### يَا حَكِيمُ

﴿19﴾

80 مرتبہ ہر روج پنچیس نمازاں شہ رندوانے **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کسیء محتاج نہ بی۔

### يَا جَلِيلُ

﴿20﴾

10 مرتبہ وانے وتی مال و اسباب اور زرء سرادم کنے **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** دُزیء شہ محفوظی۔



## يَا شَهِيدُ

﴿21﴾

21 مرتبہ، سہب (روح در کپکاشہ پیشتر) نافرمانے بچک یا بانک (جَنک) ء  
انیشگ سردستا ایر کنے آسمان ء تکادیماکنت ہر کسے وانی **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ**  
آیے بچک یا جَنک نیک بی۔

## يَا وَكِيلُ

﴿22﴾

ہفت مرتبہ ہر روح عصر ء وقت وانے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آفتاں شہ پناہ ملی۔

## يَا حَيُّدُ

﴿23﴾

90 مرتبہ، ہر کسے بریں ٹوکافی عادت نہ روی آں وانی خالیں پیالاء یا گلاس ء  
تہادم کنت ہمائی تہا آب وار **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** فحش گوئی (یعنی بے حیائی ء  
ٹوکافی) عادت در کفی روی۔ (یک مرتبہ دم کتگیں گلاس یا پیالاکئی سالان تک  
استعمال کت کنے)

## يَا مُحْصِي

﴿24﴾

یک ہزار مرتبہ، ہر کسے جمعہ ء شپ (یعنی پنج شنبہ اور جمعہ نیامی شپ) وانے  
 اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قبر و قیامت ء عذاب شہ محفوظ بی۔

## يَا مُحْيِي

﴿25﴾

7 مرتبہ وانے وتی سر آدم کنے، گیس بی یا لاپ ء یا کوئی بی جگہ ء درد بی یا کوئی  
 بہ عُضْوٌ ضَالَعٌ بیگ ء خوف بی اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فائدہ بی۔ (مدتِ علاج: شفا  
 حاصل بیگ تک روزانہ کم از کم یک مرتبہ)

## يَا مُحْيِي، يَا مُمِيتُ

﴿26﴾

ہفت مرتبہ وانے وتی سر آدم کنے اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ جادو اثر نہ کنت۔

## يَا وَاٰجِدُ

﴿27﴾

ہر کسے نگن ورگ ء وقت ء ہر ذنب ء سراوانی اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ آں نگن  
 آئے لاپ ء تہا نور بی اور بیماری دور بیاں۔

## يَا مَاجِدُ

﴿28﴾

10 مرتبہ وانے شربتہ و غیرہ سرادم کنے وار **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** (سخت) بیمار نہ بی۔

## يَا وَاحِدُ

﴿29﴾

یک ہزار مرتبہ، اگر کسے ءایکا تُرس بی، تنہائی ءتہاوانی **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آئیے دل ءشہ خوف روگ بی۔

## يَا قَادِرُ

﴿30﴾

ہر کسے وضوء نیاماں ہر عضباء شوزانا وانگ ء معمول بنائنی **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** دشمن اشیارا اؑوانہ کت کنناں۔

## يَا قَادِرُ

﴿31﴾

41 مرتبہ، مشکل ءبےتہ وانے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آسان بی۔

## 40 روحانی علاج

﴿32﴾ **يَا مُقْتَدِرُ**

20 مرتبہ، ہر کسے ہر روج وانی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** رحمتانی ساء تہابی۔

﴿33﴾ **يَا مُقْتَدِرُ**

20 مرتبہ، ہر کسے واب شہ پاد بیگ وقت وانی آیے ہر کارء تہامد دالہی شامل بی۔

﴿34﴾ **يَا أَوَّلُ**

100 مرتبہ، ہر کسے ہر روج وانی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** آیے لوگی آتیا گوں  
محبت کنت۔

﴿35﴾ **يَا مَانِعُ، يَا مُعْطِي**

20 مرتبہ، لوگی ناراضیں تہ مڑ دا اور اگر مڑ دنارا ضیں تہ لوگی پچانی (بستراء) سرا  
نندی واب شہ پیشتر وانی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** وش بیان۔

﴿36﴾ **يَا ظَاهِرُ**

لوگ دیوال (دیوار) سرا لکھ **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** دیوال (دیوار) سلامت  
بی۔

## يَا رَوْوْفُ

﴿37﴾

ہر کسے کوئی مظلوم، ظالم، شہ جان چوڑا ننگ لوٹی، 10 مرتبہ وانی آں ظالم،  
گوں ٹوک کنت **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** آں ظالم آئیے سفارش قبول کنت۔

## يَا غَنِيُّ

﴿38﴾

ونگ، ہڈ، تہا، کونڈانی، جوڑاں یا جسم، تہا ہر جاگایہ بہ درد بی، جزاناں چلانا،  
نڈاناں کڑو بیاناں وانے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** درد دور بی۔

## يَا مُغْنِيُّ

﴿39﴾

یک مرتبہ، وانے دست، سر آدم کنے ہر جاگایہ درد استیں آں جاگائے سرا  
دست چرینے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** سکون ملی۔

## يَا نَافِعُ

﴿40﴾

20 مرتبہ، ہر کسے کار شروع (رائی) کنگاشہ پیشتر وانی **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ**  
کار آئیے مرضی، مطابق پورانی۔

## 15 طَبِّی عِلَاج

### (۱-۲) بوڑانی دراز کنگے دو نسخہ

❖ 250 گرام آملہ، 125 گرام سکا کائی اور 125 گرام میتھی دانہ گھوٹے محفوظ کئے۔ دو چمچ ضرورتاً مطابق آپ تھا مہینے، سہب پالائے سگرا شوزے، ہفتہ تھا ایک بار اے عمل کئے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** بوڑانی کپک بندبی اور بوڑ دراز بیگ شروع کناں۔

❖ آملہ سفوف (پوڈر) بنائے، ضرورتاً مطابق پوڈر تھا آپ ملائے بز میں لپوئے وڑا بنائے، گڈا اشیاء درستی (کل) بوڑانی پاٹے تھا جنے (لگائے) کے دیر شہ رند سگرا شوزے۔

### (3) دتانی درد اور سوم و طَبِّی عِلَاج

آریانی تھا سوم بی، ہون یا گندر کپی تہ کے گرمیں آپ زیرے آئے تھا کے پھٹکی مان کئے، پھٹکی حل بیگ رند آل آپ راد تانی سرمے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** باز فائدہ بی۔

## (4-5) شوگرِ طَبِّی عِلاج

❖ مزائیں الائچی (پھوٹا) اندرونی کنوآں (دانہ) کشتے ہر روج سھب و شام  
پنچ پنچ کنو (دانہ) کاجوسے (جائے) **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** جلدی شفا  
حاصل بی۔

❖ آملہ، جاموں، بِنج اور کریلانی بِنج اے سے چیزاں (چیاں) ہم وزن  
زیرے ایانی سفوف (پوڈر) بنائے، شوگر (DIABETES) باز  
شریں دوائے تیار بیتا۔ اے سفوف ایک کسانے چچے ہر روج یک  
مرتبہ ورگ مرض باز بینگ شہ داری۔

## (6) ماہواری و دردِ عِلاج

ہر کسے ماہواری (M.C) و روچانی تھالاپ یاونگ و تھادرد بی تہ، ناگ و تھاتیل  
جنے (لگائے) **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** درد شہ خلاصی (چھکارا) ملی روی۔

## (7-8) لاف / ریک (لوز موشن) دِ دوطبِّي علاج

❖ نیم چمچائے چائے والی پتیء آپء گوں پھکے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** لاف / ریک ختم بی، کسانے چکان یک چونڈیء چائےء پتی آپء گوں دینگ کافی استیں، **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** اشاں بہ فائدہ بی۔

❖ سبزیں پودینہ روجء تہا ہوشینے، گھوٹے ایے پوڈرء کوئی بوتلء تہا محفوظ کئے۔ اگر کدی لاف / ریک (لوز موشن) لگی تہ سہب اور شام نیم چمچء آپ گوں استعمال کئے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** معدہ تہا ساڑتی بی اور شفا حاصل بی۔

## (9) نکسیر بند کنگے طِبِّي علاج

لیموںء رس گزئے تہا پالائے ڈراپر گوں پونزء تہا قطرہ قطرہ ماں کئے، **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** ہون بندی۔



## (10) پونز بند بیگِ طَبِّی علاج

شپءِ تہا پونز بندی اور ساءِ ہی زیرگ تہا رکاوٹ بے تہ نمء کے تازائیں پیتہ صاف کنے اشاں آپء تہا مان کنے چلئے سراگر ازے ورگ والی واز حل کنے قابل برداشت بیگ سرا اے آپ گوں پونزء شوزے اور یک روچء تہا دو بار اشیاں گوں غر گلابہ کنے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** پونز بسکی۔

## (11-12) ہڈکی وِ دُونسخہ

❖ کاغذء تھیلی یا پلاسٹکء شاپرء دف اور پونزء سرا چڑھائے دستان گوں اے وڑاء زورا گوں دارے کہ دف اور پونز شہ در کپگ والی ساءء گواس درا نہ در کپی، اے شاپرء تہا ساء زیرے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** یک دو منٹانی دتہا ہڈکی بندی۔

❖ یک کسانے الاپچیء (پھوٹاء) باز شریں وڑاء کاجوسے (جائے) ورے اور فوراً ساڑتیں آپء یک گلاس ورے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** ہڈکی بندی۔

## (13 شہ 15) دَفِ بَرِيں بُوِ سَّئِے طِبِّي عِلَاج

❖ کچونئیں پيياز اور کچونئیں تھوم ور گاگون دفء تہا بریں بو پيدابی، ادرکء یک کسانے ٹکڑاء باز شریں وڑاء کاجوسے (جائے) ورے، اے وڑاء اجوائن یا، گڑ یا سونف یا کے کسانے الاچھی (پھوٹا) باز شریں وڑاء کاجوسے (جائے) **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ** بریں بو ختم بی۔

❖ نمء 12 پتہ یک گلاس آپء تہا باز شریں وڑاء گرازے پلائے، آپ گرمائش کے بی تہ اشیاگون غرگلاکنے، اے جراثیم کُشوخ استیں، اشیئے باقاندہ استعمال گون دفء اندرونی حصہ صاف بی اور دفء بریں بو دور بی روی۔

❖ نیم گرمیں آپء تہا واز ملائے غرگلاکنے، واز تہا ملگ والی عناصر مردائیں خلیاں کشی دفء بریں بوء دور کنت۔

## نیک نمازی بیخ خاطر

ہر شہینے (جمعہ، شپ) شپ نماز مغرب شہ رند شاموئی شہر، دعوت اسلامی، ہفت روزہ سنستانی اجتماع، اللہ رضا خاطر شریں شریں نیت گوں سچے شپ گزارینے۔ سنستانی تربیت پہ عاشقان رسول پھیا (ہمراہ) ہر ماہ سے روج مدنی قافلہ تہاسفر اور۔ ہر روز فکر مدینہ، ذریعہ مدنی انعامات، ہر سالہ پر کئے وئی علاقہ، ہر سے دار کر جمع کنگ معمول بنا کنگ لوئی۔

میں مدنی مقصد: منا وئی اور سچے دنیاے مردمانی اصلاح، کوشش کنگیے۔  
 اِنْ هَيَّآءَ اللّٰهَ عَدَّوْجَلْ۔ وئی اصلاح خاطر مدنی انعامات سرا عمل اور سچے دنیاے مردمانی اصلاح، کوشش خاطر مدنی قافلہ تہاسفر کنگ لوئی۔ اِنْ هَيَّآءَ اللّٰهَ عَدَّوْجَلْ۔



فیضان مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net